



داڑھی اور بالوں کے شرعی احکام



- داڑھی کے جملہ احکام
- مونچھوں کے جملہ احکام
- سر کے بالوں کے احکام
- پورے جسم کے بالوں کے احکام
- زیر ناف کے مفصل احکام
- عورت کے بالوں کے احکام
- جدید ہیر کلر بالوں کا حکم
- خضاب کا حکم



تالیف

حضرت مولانا مفتی احسان اللہ شاہ صاحب

استاذ و مفتی جامعۃ الرشید، احسن آباد

مکتبہ عرفان

فہرست مضامین

۷	۱	عرضِ مؤلف
۹	۲	داڑھی منڈانے اور کٹانے کا حکم
۱۰	۳	داڑھی کا فلسفہ
۱۳	۴	ایک مشیت سے زائد داڑھی کتر دانا
۱۳	۵	داڑھی تینوں جوانب سے ایک مٹھی ہونا ضروری ہے
۱۴	۶	داڑھی کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے
۱۴	۷	رُخسار کے بالوں کا حکم
۱۵	۸	حلق کے بالوں کا حکم
۱۵	۹	ریشِ بچہ کا حکم
۱۶	۱۰	سفید بال اکھاڑنے کا حکم
۱۷	۱۱	کٹے ہوئے بالوں کا حکم
۱۷	۱۲	داڑھی پیدا کرنے کیلئے اُسترا چلانا
۱۸	۱۳	داڑھی کو برا سمجھنا
۱۸	۱۴	داڑھی منڈانے کی تاریخ
۱۹	۱۵	داڑھی میں گرہ لگانا
۲۰	۱۶	داڑھی کے بال مسجد میں نہ گریں

۲۰	۱۷	ملازمت کی خاطر داڑھی منڈانا
۲۲	۱۸	داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب؟
۲۳	۱۹	عورت کی داڑھی مونچھ نکل آئے تو کیا کرے
۲۴	۲۰	خضاب کا حکم
۲۵	۲۱	سیاہ خضاب کا حکم
۲۷	۲۲	مجاہدین کیلئے سیاہ خضاب کا حکم
۲۸	۲۳	دھوکہ دہی کیلئے سیاہ خضاب کا استعمال
۲۸	۲۴	بیوی کو خوش کرنے کیلئے سیاہ خضاب استعمال کرنے کا حکم
۳۰	۲۵	جدید ہیر کلر کا حکم
۳۰	۲۶	سیاہ خضاب تیار کرنا
۳۱	۲۷	داڑھی منڈے کی اذان و اقامت
۳۲	۲۸	داڑھی کٹانے والے کی امامت
۳۲	۲۹	داڑھی کٹانے والے کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا جائز نہیں
۳۳	۳۰	داڑھی مونڈنے کی اجرت
۳۳	۳۱	ہاتھوں کا گناہ
۳۴	۳۲	داڑھی منڈے کو سلام کرنے کا حکم
۳۵	۳۳	داڑھی منڈے کے سلام کا جواب
۳۵	۳۴	ہر داڑھی والے کو مولانا کہنے کا حکم

۳۵	موچھوں کا حکم	۳۷
۳۶	موچھوں کو تراشنے کا حکم	۳۸
۳۷	موچھوں کو دائیں بائیں بڑھانے کا حکم	۳۸
۳۸	مجاہدین کیلئے موچھیں بڑھانے کا حکم	۳۹
۳۹	موچھوں کو موٹڈنے کا حکم	۴۰
۴۰	سر کے بالوں کی جائز صورتوں کی تفصیل	۴۱
۴۱	سر پر بال رکھنے کا حکم	۴۲
۴۲	سر کے بالوں کی ناجائز صورتیں	۴۳
۴۳	بچوں کے بالوں کا حکم	۴۴
۴۴	مرد کیلئے جوڑا باندھنا جائز نہیں	۴۵
۴۵	عورتوں کا جوڑا باندھنا	۴۶
۴۶	مصنوعی بال لگانے کا حکم	۴۷
۴۷	انسانی بالوں کو بیچنا	۴۸
۴۸	عورتوں کا بال کٹوانا	۴۹
۴۹	عورتوں کیلئے بال کٹوانے کی ممانعت کس عمر سے ہے؟	۵۰
۵۰	ابر و کا حکم	۵۱
۵۰	سینہ اور پیٹ کے بالوں کا حکم	۵۲
۵۰	ران اور بازو کے بالوں کا حکم	

۵۰	۵۳	ناک کے اندر کے بالوں کا حکم
۵۱	۵۴	کان کے بالوں کا حکم
۵۱	۵۵	گردن کے بالوں کا حکم
۵۲	۵۶	زیر بغل کا حکم
۵۲	۵۷	زیر ناف کا حکم
۵۳	۵۸	زیر ناف صاف کرنے کا مسنون طریقہ
۵۳	۵۹	زیر ناف صاف کرنے کیلئے پاؤڈر کا استعمال
۵۳	۶۰	زیر ناف دوسرے سے صاف کروانا
۵۴	۶۱	زیر ناف کی حدود
۵۵	۶۲	سر میں تیل لگانے کا حکم
۵۶	۶۳	سر پر مانگ نکالنے کا حکم
۵۶	۶۴	بالوں کو اچھی طرح رکھنے کا حکم
۵۷	۶۵	بال کے پاک و ناپاک ہونے کی تفصیل
۵۸	۶۶	محرم اگر سر پر سے دو چار جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے تو حلال ہوگا یا نہیں؟
۵۹	۶۷	محرم کے سر پر بال نہ ہوں تو کیا کرے؟
۶۰	۶۸	داڑھی منڈانے کے دنیاوی نقصانات
۶۳	۶۹	داڑھی کے متعلق ایک نظم

عرضِ مؤلف

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم :

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا سجن المومن وجنة الکافر یعنی ”دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے اور کافر کیلئے جنت ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ کافر ایمان کی دولت سے محروم ہونے کی بناء پر احکام شرع کا پابند نہیں آزاد ہے لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے وہ شریعت کے تمام احکام کا پابند ہے وہ دنیا میں آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ زندگی کے ہر شعبہ میں احکام شرع کی پابندی کرنا اس پر لازم ہے۔ اسلام میں دیگر شعبہء زندگی کی طرح انسانی جسم کے تمام بالوں کے متعلق بھی واضح احکامات موجود ہیں۔ سر کے بال، داڑھی کے بال، مونچھیں، زیرِ ناف، زیرِ بغل اسی طرح عورتوں کے سر کے بال وغیرہ غرضیکہ انسانی جسم میں اُگنے والے تمام بالوں سے متعلق الگ الگ احکامات موجود ہیں ان کی پابندی ہر مومن مرد و عورت کیلئے ضروری ہے لیکن موجودہ دور میں دیگر احکامات شرعیہ کی طرح بالوں کے متعلق بھی انتہائی غفلت برتی جا رہی ہے۔ اس لئے خیال ہوا کہ بالوں کے متعلق تمام مسائل کو قرآن و حدیث اور فقہ کی معتبر و مستند کتابوں سے اخذ کر کے یکجا کیا جائے۔ تاکہ

لوگوں کیلئے مسائل کو تلاش کرنا ان پر عمل کرنا آسان ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام مکمل ہوا اور رسالہ کی شکل میں منظر عام پر آیا اور کچھ ہی عرصہ میں اسکا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا بہت سے احباب نے اس کے مفید ہونے کی اطلاع دی البتہ نظر ثانی کا مشورہ دیا ہے اس لئے اب دوسرے ایڈیشن کے موقع پر خیال ہوا کہ اس پر نظر ثانی کی جائے اور کچھ مزید اضافہ کیا جائے الحمد للہ اب یہ رسالہ اضافہ و تصحیح کے ساتھ پیش خدمت ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے اس رسالہ کو قبول فرمائے امت کے لئے نافع بنائے۔ میرے لئے اور میرے اساتذہ کرام، والدین اور جملہ معاونین کیلئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین

و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

راقم الحروف

بندہ احسان اللہ شائق عفا اللہ عنہ

خادم افتاء و تدریس

جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی

پیر ۸/ذی الحجہ ۱۴۲۳ھ بمطابق ۱۰/فروری ۲۰۰۳ء

داڑھی منڈانے اور کٹانے کا حکم

سوال: داڑھی منڈانے اور ایک مشت سے کم کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟

الجواب: مردوں کیلئے داڑھی رکھنا واجب ہے اور اسکی مقدار شرعی ایک قبضہ یعنی ایک مشت ہے داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہم السلام کی متفقہ سنت مستمرہ ہے۔ اسلامی اور قومی شعار ہے شرافت و بزرگی کی علامت ہے چھوٹے بڑے میں فرق و امتیاز کرنے والی ہے۔ اسی سے مردانہ شکل کی تکمیل اور صورت نورانی ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فطرت سے تعبیر فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو داڑھی رکھنے کا تاکید ہی حکم فرمایا ہے۔ لہذا داڑھی رکھنا واجب اور ضروری ہے منڈانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس پر امت کا اجماع ہے۔

و عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالفوا المشرکین او فرو اللحی و احفوا الشوارب و کان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ فما فضل اخذ۔۔۔ (بخاری ص ۸۷۵ ج ۲)

یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ

مایہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو لٹاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کبھی حج یا عمرہ کرتے تھے تو داڑھی کو مٹھی میں پکڑ لیا کرتے تھے۔ بس جو مٹھی سے زیادہ ہوتی اسکو کتر وادیتے۔

علامہ محمود خطاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے تمام ائمہ مجتہدین جیسے امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ علیہم وغیرہ کے نزدیک داڑھی منڈانا حرام ہے۔ ﴿المصلح ص ۱۸۶ ج ۱۸۶ فتاویٰ رحیمیہ ص ۲۲۵ ج ۶﴾

حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

داڑھی رکھنا واجب ہے منڈانا کٹنا ایک مشیت سے کم کرنا حرام ہے۔

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْ فَرُوا الدِّهْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي الدَّرِّ الْمَخْتَارِ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ قَطْعُ لِحْيَتِهِ وَالسَّنَةُ فِيهَا الْقَبْضَةُ

﴿امداد الفتاویٰ ص ۲۲۳ ج ۲﴾

داڑھی کا فلسفہ اور اسکے رکھنے کا حکم

مسلم قوم ایک مستقل و ممتاز ملت ہے جو تمام اقوام و ملل سے بالکل علیحدہ فطرت سلیمہ کی حامل و مالک ہے اللہ نے اسکو اقوام عالم پر شاہد و عادل بنا کر بھیجا

و کذلک جعلنا کم أمة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یكون الرسول علیکم شهیدا ۝ کنتم خیرا أمة أخرجت للناس ۝
 (یعنی ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنایا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم لوگوں پر شاہد ہو اور تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہوں، تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کیلئے ظاہر کی گئی ہے)

لیکن افسوس کہ یہ قوم اپنی دینی و مذہبی خصوصیات تو عرصہ ہوا کھو چکی تھی آج اپنی تمدنی و معاشرتی امتیازات کو بھی فنا کرتی جا رہی ہے۔ رسم و رواج میں اہل وطن (ہندو) کی اتباع تمدن و معاشرت میں اہل مغرب (انگریزوں) کی تقلید مسلمان کے رگ و ریشہ میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔

آج جبکہ دنیا کی ہر قوم اپنی زندگی اور اپنی قومی و ملی خصوصیت کے بقاء و تحفظ کیلئے سرگرم عمل نظر آ رہی ہے۔ مسلمان اپنی قومی و ملی خصوصیات و امتیازات کو فرنگیت کے بھینٹ چڑھا کر ان ہی میں جذب ہوتی جا رہی ہے۔
 یا للعجب، کل جو قوم اقوام عالم کیلئے جاذب و مصلح تھی، (مقتداء و رہنماء تھی، ہر قوم اسلام کے دامن میں پناہ کی متلاشی تھی)

وہ آج کس سرعت کے ساتھ دوسروں میں جذب ہوتی جا رہی ہے۔ اور

دوسروں کی نقالی ہی کو معیار ترقی خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ اہل بصیرت کے نزدیک یہ انتہائی تنزل و انحطاط اور قومیت کے لئے زہر ہلا اہل سے کم نہیں۔

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی

کیں رہ کہ تو میر وی بہ ترکستان است

ڈاڑھی اسلام کے اہم شعار میں سے ہے، بلکہ انسانی و فطری اصول سے خواص رجولیت میں سے ہے لیکن افسوس سب سے زیادہ مسلمان ہی اسکی صفائی کے درپے ہیں اور اس طور سے قومی و ملی امتیاز سے قطع نظر فطرت و انسانیت کیلئے بھی مضحکہ خیزی کا ذریعہ بن رہی ہے،

اس لئے جب داڑھی اسلام کا شعار ہے، اور داڑھی کٹوانا یا نہ ڈھاننا، اور مونچھوں کا بڑھانا یہود و نصاریٰ اور مشرکین کا شعار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو داڑھی رکھکر اس شعار کی حفاظت کا اور دوسری اقوام کی مخالفت کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے،

خالفوا المشركين او فروا للحي و اعفوا الشوارب. ﴿مسلم﴾

جزوا الشوارب و ارحوا للحي خالفوا المجوس. ﴿بخاری ص ۸۷۵﴾

ان روایات کے مثل اور بہت سی روایات کتب حدیث میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں مشرکین اور مجوس داڑھی منڈاتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے جیسا کہ آج کل عیسائی اور ہندو قوم کر رہی ہے۔ تو مسلمانوں پر لازم ہے۔ اپنے اس شعار کی حفاظت کرے، ایک مٹھی کی مقدار داڑھی رکھے، اسکو ہر گز کم نہ کرے اور مونچھوں کو کٹوائے۔ ﴿ماخذہ: امداد الفتاویٰ﴾

ایک مشت سے زائد داڑھی کو کتر وانا

سوال: داڑھی جب ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو اسکو کتر وانا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب: مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کتر وانا جائز ہے۔

والقصر سنة فيها و هو ان يقبض الرجل لحيته فان زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكر محمد رحمه الله.

﴿عائگیری ص ۲۳۹ ج ۲ اور امداد الفتاویٰ ص ۲۲۰ ج ۲﴾

داڑھی تینوں جانب سے ایک مٹھی ہو

سوال: داڑھی کا ایک مٹھی ہونا صرف نیچے ٹھوڑی کی جانب سے یا ہر جانب سے؟
جواب: ہر جانب سے ایک مٹھی ہونا ضروری ہے یعنی ٹھوڑی کے نیچے سے مٹھی پکڑ کر زائد کو کاٹے اسی طرح دونوں جانب سے، بھی مٹھی بھر ہونا ضروری ہے۔

داڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے

سوال: داڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے تاکہ سر منڈاتے وقت وہاں تک منڈایا جائے۔ آیا کان کی پا پڑی تک یا وسط تک یا بالائی حصہ کان تک؟

جواب: کنپٹی کے نیچے جو ہڈی ابھری ہوئی ہے یہاں سے داڑھی شروع ہے اس سے اوپر سر۔ پس سر کی حد تک منڈانا درست ہے۔ داڑھی کی حد سے درست نہیں۔

﴿امداد الفتاویٰ ص ۲۲۱ ج ۴﴾

رخسار کے بالوں کا حکم

سوال: رخسار کے بال صاف کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: جڑے کی ہڈی پر جو بال ہوں وہ داڑھی میں شامل ہیں ان کو چھوڑ کر جڑے کی ہڈی کے اوپر جہاں سے رخسار شروع ہوتا ہے ان کو برابر کر دینا خط بنوانا درست ہے۔ کیونکہ رخسار کے بال داڑھی کے حکم میں نہیں ہیں۔

کما فی البحر الرائق قال : و ظاهر کلامهم ان المراد باللحیة الشعر النابت علی الخدین من عذارو عارض و الذقن و فی شرح الارشاد اللحیة الشعر النابت بمجتمع اللحیین و العارض بینهما و بین العذارو هو القدر المحاذی للاذن متصل عن الاعلیٰ بالصدغ من

الاسفل.

﴿ص: ۱۶ ج: ۱﴾

حلق کے بالوں کا حکم

سوال: حلق یعنی جڑے کے نیچے گلے میں جو بال ہوتے ہیں ان کو کاٹنے اور منڈانے کا کیا حکم ہے؟

جواب: حلق کے بالوں کو کاٹنا یا منڈانا مکروہ ہے۔ ﴿بہشتی گوہر﴾

وفی الشامیة قال: و لا یحلق شعر حلقه و عن ابی یوسف

لا یاس بہ ﴿شامی ص ۲۸۸ ج ۵ کتاب الحضر والاباحہ﴾

ریش بچہ کا حکم

سوال: ریش بچہ یعنی ہونٹ کے نیچے ٹھوڑی پر جو بال ہوتے ہیں، اس طرح بچی کے دونوں جانب جو بال ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے آیا داڑھی کے حکم میں ہے یا نہیں؟

الجواب: ریش بچہ تو داڑھی کا حصہ ہے اس کا حکم داڑھی کا حکم ہے۔ بچی کے دونوں جانب لب زیریں کے بال منڈوانے کو فقہاء نے بدعت لکھا ہے۔ ﴿بہشتی گوہر﴾

وفی الشامیة قال: نتف الفنبکین بدعة و هما جانبنا العنفة و ہی

شعر الشفة السفلی کذا فی الغرائب. ﴿شامی ص ۴۰۷ ج ۶ کتاب الحظر والاباحہ﴾

سفید بال اکھاڑنے کا حکم

سوال: کسی کی عمر اگر کم ہو مثلاً تیس ۳۰ پینتیس ۳۵ سال اسکی داڑھی میں ایک دو سفید بال نظر آئیں تو انکو اکھاڑنا کیسا ہے؟

جواب: ایک دو سفید بال بغیر نیت زینت اکھاڑنے کی گنجائش ہے، یعنی اسکی عادت نہ بنائے کہ جب بھی کوئی بال سفید نظر آئے اسکو اکھاڑ دیا جائے۔ کیونکہ حدیث میں سفید بال کو مومن کیلئے نور قرار دیا ہے۔

و فی الشامیہ قال : و لا بأس بنتف الشیب۔

﴿ص ۴۰۷ ج ۲ حظرو اباحہ﴾

و فی الہندیہ قال : نتف الشیب مکروہ للتریزین لا لترہیب

العدو۔ ﴿عالمگیری ص ۳۵۹ ج ۵﴾

و روی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضوان اللہ

علیہم اجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتفوا

الشیب فانہ ما مسلم یشب شبۃ فی الاسلام الا کانت لہ نوراً یوم

﴿الترغیب والترہیب ۱۸۳ ج ۲﴾

القیامۃ۔

کٹے ہوئے بالوں کا حکم

سوال: داڑھی کے جو بال گر جائیں یا ایک مٹھی سے زائد بال کاٹ دیئے جائیں ان بالوں کو دفن کیا جائے یا کہیں ڈال دیا جائے؟

جواب: کٹے ہوئے بال ہوں یا ناخن یا جسم کا اور کوئی حصہ انکو دفن کر دینا چاہئے۔ اور اگر دفن نہ کرے بلکہ کسی محفوظ جگہ ڈال دے تو یہ بھی جائز ہے۔ مگر نجس اور گندی جگہ نہ ڈالے۔ اس سے بیماری کا اندیشہ ہے۔ اور انسانی اعضاء کے احترام کے بھی خلاف ہے۔ ﴿بہشتی گوہر ص ۱۱۶﴾

وفی الشامیۃ قال : فاذا قلم اظفارہ او جز شعرہ ینبغی ان یدفنہ فان رمی بہ فلا بأس و ان القاه فی الکنیف او فی المغتسل کرہ لانہ یورث داء۔ ﴿ص ۲۸۷ ج ۱ مکتبہ ماجدیہ﴾

داڑھی پیدا کرنے کیلئے استرہ چلانا

سوال: ایک شخص کی عمر ۲۳ سال ہے مگر اسکی داڑھی اور مونچھیں نہیں نکلیں کیا وہ اس احتمال کی بناء پر کہ شاید نکل آئے استرا چلا سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: اس ضرورت سے استرا چلانا جائز ہے۔ ﴿احسن الفتاویٰ ص ۷۷ ج ۸﴾

داڑھی کو برا سمجھنا

سوال: سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً داڑھی کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟

جواب: کسی ادنیٰ سے ادنیٰ سنت کو برا سمجھنا یا اس کا مذاق اڑانا درحقیقت اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء ہے، جس کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں جب سنت سے استہزاء کفر ہے تو داڑھی تو واجب ہے، اور شعار اسلام ہے ایک مشیت سے کم کرنا بالاجماع حرام ہے اس کا مذاق اڑانا بطریق اولیٰ کفر ہے۔

فی العلائقہ قال : و اما الاخذ منها و هی دون ذالک کما یفعلہ بعض المغاربة و مخنثة الرجال قلم یبحہ احد . ﴿شامیہ ص ۱۲۳ ج ۲﴾
اسے دوبارہ مسلمان کر کے نکاح بھی دوبارہ کیا جائے۔

﴿ماخوذ از احسن الفتاویٰ ص ۴۲ ج ۱﴾

داڑھی منڈانے کی تاریخ

سوال: انسانوں میں داڑھی منڈانے کا یہ قبیح فعل کب سے شروع ہوا ہے؟

جواب: تاریخ سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے یہ عمل قوم لوط سے شروع ہوا۔
اغلب یہی ہے وہ امرد پرست تھے۔ غالباً جب ان کے مردوں کی داڑھیاں آجاتی تھیں تو امرد ہی رہنے کی غرض سے وہ داڑھی منڈوایا کرتے تھے۔ چنانچہ جناب نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”ہیں تمہارے کاموں کی وجہ سے قوم لوط ہلاک کی گئی ہے جن میں سے ایک لواطت ہے اور شراب پینا اور داڑھی منڈوانا اور مونچھیں بڑھانا بھی۔“ ﴿درمنثور ص ۲۲۳ ج ۴۔ روح المعانی ۶۳ ج ۱۷﴾

داڑھی میں گرہ لگانا

سوال: بعض لوگ داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن اسکو موڑ کر گرہ لگا لیتے ہیں یا اوپر چڑھا لیتے ہیں کیا شرعاً ایسا کرنا درست ہے؟

جواب: عن روفع بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا روفع الحیاة ستطول بک بعدی فاخبر الناس ان من عقد لحیتہ او تقلد او ترا او استنجی برجیع دابة او عظم فان محمداً منہ بری۔ ﴿روہ ابوداؤد مشکوٰۃ ص ۴۳﴾

روافع بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میرے بعد قریب ہے کہ تیری زندگی دراز ہو تو لوگوں کو خبر دینا کہ جو شخص اپنی داڑھی میں گرہ لگائے یا داڑھی چڑھائے یا تانت کا قلابہ ڈالے یا گوبر اور ہڈی سے استنجاء کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ ﴿مشکوٰۃ﴾

تو معلوم ہوا کہ داڑھی لٹکانے کے بجائے اوپر چڑھانا یا اس پر گرہ لگانا بڑا

گناہ ہے۔ اسکو اپنی اصلی حالت پر چھوڑنا چاہئے۔

داڑھی کے بال مسجد میں نہ گریں

بعض لوگ وضو وغیرہ کے بعد داڑھی کے بالوں کو درست کرنے کیلئے مسجد میں ہی کنگی کر لیتے ہیں شرعاً اس میں کوئی قباحت تو نہیں البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بال مسجد میں نہ گریں اگر کوئی بال ٹوٹ جائے تو اسکو جیب میں رکھ لے۔ کیونکہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔

ملازمت کی خاطر داڑھی منڈانا

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی اسلئے منڈاتے ہیں تاکہ اچھی نوکری مل جائے سرکاری ملازمت مل جائے اگر داڑھی رکھیں گے تو یہ ملازمتیں نہیں ملیں گی۔ کیا ملازمت کی خاطر داڑھی منڈانا جائز ہے؟

جواب: ملازمت کرنا یا کسی اور ذریعہ معاش کو اختیار کرنا شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ شریعت مطہرہ نے اسکا حکم دیا ہے کہ انسان فرائض کی ادائیگی کے بعد کوئی بھی حلال ذریعہ معاش اختیار کرے۔ لیکن معاش کی خاطر شریعت، مطہرہ کے کسی حکم کو چھوڑنا حرام کا ارتکاب کرنا شرعاً اسکی قطعاً اجازت نہیں۔ داڑھی رکھنا شرعاً واجب اسکا منڈانا، مٹھی سے کم کرنا حرام ہے۔ لہذا ملازمت کی خاطر داڑھی

منڈانے یا کٹانے کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں۔ اگر اسکے بغیر ملازمت نہ مل رہی ہو تو تب بھی داڑھی منڈانے کے جرمِ عظیم کا ارتکاب نہ کریں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اسی سے دعا مانگتے رہیں اور فراخی رزق کا انتظار کریں۔

ارشاد باری ہے:

و من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب
و من يتوكل على الله فهو حسبه. (جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اسکی نافرمانی اور گناہ کا کام نہیں کرتا تو حق تعالیٰ اسکے لئے (مشکلات سے) نجات کی راہ نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اسکا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو کوئی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے (اسکی مشکلات حل کرنے کیلئے) خدا تعالیٰ کافی ہے۔

﴿سورة الطلاق﴾

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

و لا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله.
(یعنی تمہیں رزق دیر سے ملنا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعہ رزق طلب کرنے لگو)۔

داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب؟

سوال: بعض لوگ داڑھی کے متعلق کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے رکھ لے تو بہتر ہے نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے کیا واقعی داڑھی رکھنا سنت ہے؟

جواب: داڑھی رکھنا شرعاً واجب (فرض عملی) ہے مگر اسکا ثبوت سنت (یعنی حدیث) سے ہے۔ اسی لئے بعض لوگ سنت کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

هو ما يقال انها سنة فمعناها طريقه مسلوكة في الدين

او ان و جوبها ثبت بالسنة. ﴿لمعات شرح مشکوٰۃ﴾

یعنی یہ جو کہا جاتا ہے داڑھی سنت ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی طریقہ ہے یا اسکا واجب ہونا حدیث سے ثابت ہوا ہے، بلکہ ہر واجب سنت ہی سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ درمختار باب وتر میں ہے:

هو فرض عملاً واجب اعتقاداً سنة ثبوتاً. ای ثبوتہ علم من

جهة السنة لا القرآن. یعنی نماز وتر کے واجب ہونے کا ثبوت سنت سے ہوا ہے نہ کہ قرآن سے۔

داڑھی کو سنت کہنا بعینہ ایسا ہے جیسا کہ قربانی کو سنت ابراہیم علیہ السلام

کہا جاتا ہے۔ پس جبکہ قربانی کو سنت ابراہیم کہنے سے یہ قربانی فرض ہونے سے نکل کر مستحب نہیں بن جاتی اسی طرح داڑھی کو سنت رسول کہہ دینے سے یہ واجب ہونے سے نہیں نکل جاتی بلکہ اسکا منڈانا حرام ہی رہتا ہے۔ اسکو صرف سنت سمجھ کر اسکے حکم کو ہلکا سمجھنا بہت غلط بات ہے۔ ﴿ماخوذ از داڑھی کا وجوب﴾

عورت کی داڑھی مونچھ نکل آئے تو کیا کرے

سوال: عورت کیلئے چہرہ کے بال صاف کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: عورتوں کو اپنے چہرے کے بال چنونا مکروہ ہے۔ ہاں البتہ ایسے بال جو شوہر کیلئے وحشت کا سبب بنے اسکو صاف کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے چہرہ پر داڑھی مونچھ نکل آئے تو اسکو صاف کرنا جائز بلکہ مستحب ہے بال چننے پر جو لعنت وارد ہوئی ہے انکا مورد یہ ہے کہ ابرو کے اطراف سے بال اکھاڑ کر باریک دھاری بنائی جائے۔

وفی الشامیة (قوله النامصة) ذكره في الاختيار ايضاً و

المغرب النمص نشف الشعر و منه المنماص المنقاش لعله محمول

على ما اذا فعلته لتزين للاجانب و الا فلو كان في وجهها شعر ينفر

زوجها عنها بسببه ، ففي تحريم ازالته بعد لأن الزينة للنساء مطلوبة

للتحسين الا أن يحمل على مالا ضرورة اليه لما في نتفه بالمنماص
من الايذاء وفي تبين المحارم ازالة الشعر من الوجه حرام الا اذا
نبت لامرأة لحية أو شوارب فلا تحرم ازالته بل تستحب.

﴿شامیہ ص ۳۷۳ ج ۶ ایچ ایم سعید﴾

خضاب کا حکم

سوال: داڑھی اور سر کے بالوں میں خضاب کا کیا حکم ہے؟

جواب: سیاہ رنگ کے سوا دوسرے رنگوں کا خضاب علماء مجتہدین کے نزدیک جائز
بلکہ مستحب ہے اور سرخ خضاب خالص حناء کا یا کچھ سیاہی مائل جس میں کتم شامل کیا
جاتا ہے مسنون ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمہور محدثین کے
نزدیک ایسا خضاب استعمال کرنا ثابت ہے صحیح بخاری میں عثمان بن عبد اللہ ابن
موہب سے مروی ہے کہ ہم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے
لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک نکالا۔ دیکھا تو وہ حناء و کتم سے
خضاب کیا ہوا تھا۔ ﴿زاد المعاد ص ۱۲۶ ج ۲﴾

اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان احسن ما غیر تم به الشیب الحناء والکتم۔ ﴿رواہ سنن الاربعہ﴾

بہترین رنگ جن سے سفید بالوں کی سفیدی تبدیل کی جائے مہندی اور

وسمہ ہیں۔

سیاہ خضاب کا حکم

سوال: سیاہ خضاب کا کیا حکم ہے؟

جواب: سیاہ خضاب کا استعمال خواہ داڑھی میں ہو خواہ سر میں حرام ہے چنانچہ صحیح احادیث میں سفید بالوں کے تبدیل کیلئے حناء (مہندی) اور کتم (وسمہ) استعمال کرنے کی ترغیب اور خالص سیاہ رنگ استعمال کرنے پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ: جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ آئیں گے جو کبوتروں کے پوٹوں کی طرح سیاہ رنگ کا خضاب کریں گے یہ جنت سے اتنے دور رکھے جائیں گے کہ اسکی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے۔

﴿ابوداؤد۔ نسائی۔ احمد﴾

و عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ مرفوعاً من خضب

بالسواد سودا للہ وجہہ یوم القیامہ ﴿رواہ الطبرانی وابن ابی عاصم کنز العمال ص

۶۷۱ ج ۶ ، جمع الوسائل ص ۱۲۵ ج ۱ ، اوجز المسائل ص ۳۳۵ ج ۶﴾

جو سیاہ خضاب استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت اسکا چہرہ سیاہ کر دیں گے۔

عن جابر رضی اللہ عنہ قال اتی بابی فحافہ رضی اللہ عنہ

یوم فتح مکة و راسه كالشغامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشئ و اجتنبوا السواد. ﴿مسلم، ابوداود، نسائی، احمد﴾
یعنی فتح مکہ کے روز حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے ان کے سر اور داڑھی کے بالی شغامہ گھاس کی طرح سفید تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی سفیدی کسی چیز سے تبدیل کر دو لیکن سیاہ رنگ سے اجتناب برتو۔

يستحب للرجل خضاب شعره و لحيه الى قوله و يكره بالسواد. ﴿الدر المختار علی هامش رد المحتار ص ۴۲۲ ج ۶﴾
(یعنی مرد کیلئے سر اور داڑھی پر خضاب کرنا مستحب ہے مگر سیاہ رنگ کا خضاب مکروہ تحریمی ہے)۔

حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سر اور داڑھی میں سیاہ خضاب لگانا از روئے شرع حرام ہے۔ کیونکہ کلیاً و جزاً اس پر وعید آئی ہے۔
﴿مختص از امداد الفتاویٰ ص ۲۱۸ ج ۲﴾

حضرت مفتی عبدالرحیم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ
سوال : سر کے بال جوانی میں سفید ہو جائیں تو سیاہ خضاب لگانا کیسا ہے؟

جواب: سیاہ خضاب لگانا سخت گناہ ہے احادیث میں اس پر وعید آئی ہے۔

﴿فتاویٰ رحیمیہ ص ۲۹ ج ۶﴾

مجاہدین کیلئے سیاہ خضاب کا حکم

سوال: مجاہد کے بال سفید ہو گئے ہوں تو جہاد میں جاتے وقت دشمن پر رعب ڈالنے کی غرض سے سیاہ خضاب استعمال کر سکتے ہیں؟ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: دشمن پر رعب ڈالنے کی غرض سے جہاد کے موقع پر سیاہ خضاب کا استعمال بالاتفاق محمود و مستحسن ہے۔ قال فی الذخیرہ : اما الخضاب بالسواد للغزو لیکون اھیب فی عین العدو . فهو محمود بالاتفاق . و ان یزین نفسه للنساء مکروہ و علیہ عامة المشایخ ﴿فتاویٰ شامی ص ۲۲۲ ج ۶﴾

و غیر و اھذا الشیب و اجتنبوا السواد قال الحموی ھذا فی حق غیر الغزاة ولا یحرم فی حقہم للارھاب .

﴿فتاویٰ شامی ص ۷۳۶ ج ۶﴾

دھوکہ دہی کیلئے خضاب کا استعمال

سوال: مرد و عورت کا ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کیلئے سیاہ خضاب کے استعمال کا کیا حکم ہے؟

جواب: مرد ہو یا عورت دھوکہ سے اپنے کو جوان ظاہر کرنے کیلئے سیاہ خضاب کا استعمال بالاتفاق مشائخ و علماء مجتہدین ناجائز اور حرام ہے۔ کیونکہ دھوکہ دینا فی نفسہ حرام ہے اور نفاق کی علامت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

من غشنا فليس منا و المکرو الخداع فی النار. رواه الطبرانی فی الکبیر و الصغیر باسناد جید.

یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اور مکرو فریب جہنم میں ہے۔ ﴿طبرانی﴾

مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دہی ایک مسلمان سے بعید ہے۔

بیوی کو خوش کرنے کیلئے سیاہ خضاب استعمال کرنے کا حکم

سوال: بیوی کو خوش کرنے کیلئے سیاہ خضاب استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: اکثر علماء و مجتہدین نے اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ بیوی کی دلجوئی کی

خاطر زینت کیلئے سیاہ خضاب کا استعمال مکروہ تحریمی ہے۔ جیسا کہ شامیہ اور عالمگیریہ میں صراحت ہے۔ و من فعل ذالک لیزن نفسه للنساء و لحبب نفسه الیہن فذالک مکروہ و علیہ عامة المشائخ۔

﴿عالمگیریہ ص ۲۵۹ ج ۵۔ شامی ص ۳۲۲ ج ۶﴾

بعض لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ نے جو ان بیوی کی دلجوئی کیلئے سیاہ خضاب کو جائز قرار دیا ہے ان کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ کما یعجبنی ان تنزین لی یعجبھا ان اتزین لھا۔

﴿فتاویٰ شامی ص ۳۲۲ ج ۶﴾

جواب : اس اشکال کے متعلق حضرت حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں بعض لوگ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو پیش کیا کرتے ہیں سو بشرط ثبوت اس روایت اور ان کے رجوع نہ کرنے کا جواب یہ ہے کہ ”شرح عقود رسم المفتی“ میں یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ میں اگر اختلاف ہو تو جسکے ساتھ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہونگے اس قول پر فتویٰ ہوگا خصوصاً جبکہ وہ قول دلیل صریح صحیح سے مؤید بھی ہو۔ اس لئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرنا مذہب حنفی کے مقررہ اصول کے خلاف ہے اور صریح صحیح دلیل موجود ہونے کی وجہ سے خلاف دیانت بھی ہے۔

﴿اصلاح الرسوم ص ۲۲﴾

خلاصہ یہ ہے کہ اولاً تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اسکا ثبوت یقینی نہیں۔
پھر اس قول سے احتمال رجوع بھی قوی ہے ان دونوں باتوں سے صرف نظر کر لیا
جائے تو یہ ایک غیر مفتی بہ مرجوح قول ہے۔ ﴿احسن الفتاویٰ ص ۳۷۱ ج ۸﴾
جیسا کہ عامۃ المشائخ کا قول اسکے خلاف ہونا اوپر مذکور ہوا ہے۔ لہذا
اس قول کا سہارا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔

جدید ہیز کلر کا حکم

آج کل ہیز کلر کے نام سے جو مہندی کا رنگ آرہا ہے اسکا حکم یہ ہے کہ
جو ہیز کلر بالوں کو خالص سیاہ کر دیں نہ صرف مکروہ تحریمی ہے بلکہ بروئے حدیث
باعث لعنت اور جنت سے محرومی کا سبب بھی ہے۔ البتہ جو ہیز کلر بالوں کو خالص سیاہ
نہیں کرتے بلکہ سیاہی مائل سرخ کرتے ہیں ان کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔

واضح رہے کہ یہ اُس ہیز کلر کا حکم جن میں حرام اشیاء نہ ہوں اگر حرام
اشیاء ہوں تو ان کا استعمال مطلق حرام ہے خواہ بالوں کو خالص سیاہ کریں یا نہ کریں۔
﴿ماخوذ از خضاب کا شرعی حکم۔ فتویٰ دارالافتاء بنوری ٹاؤن﴾

سیاہ خضاب تیار کرنا

سوال : کیا شرعاً سیاہ خضاب تیار کرنا جائز ہے جبکہ اسکا استعمال حرام ہے؟

جواب: سیاہ خضاب تیار کرنا اور فروخت کرنا جائز ہے اس لئے کہ ایک محل اسکے جواز کا بھی موجود ہے۔ یعنی دشمن پر ہیبت بیٹھانے کیلئے مجاہدین استعمال کریں۔ البتہ بنانا، بیچنا خلاف اولیٰ ہے مگر ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہیں جسکے متعلق یقین ہو کہ ناجائز طور پر استعمال کریگا۔ کمافی ردالمحتار وغیرہ۔

﴿احسن الفتاویٰ ص ۳۷۴ ج ۸﴾

داڑھی منڈے کی اذان و اقامت

سوال: ایک شخص داڑھی منڈاتا ہے کیا وہ اذان و اقامت کہہ سکتا ہے؟

جواب: داڑھی منڈانے والا فاسق ہے۔ فاسق کا اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے اسی طرح اقامت کہنا، البتہ اسکی اذان کا اعادہ مستحب ہے اقامت کا نہیں۔ مؤذن ایسا شخص ہونا چاہئے جو پابند شریعت ہو۔

ويستحب ان يكون المؤذن عالما بالسنة تقيا فيكره اذان

الجاهل و الفاسق. ﴿غنية المستملی ص ۳۵۹﴾

فاسق کی اذان کی کراہت کے بارے میں شامی میں ہے۔

و ظاهره ان الكراهة تحريمية. ﴿شامی ص ۳۵۳ ج ۱﴾

﴿ماخوذ از احسن الفتاویٰ ص ۲۸۷ ج ۲، خیر الفتاویٰ ص ۲۱۰ ج ۲﴾

داڑھی کٹانے والے کی امامت

سوال: داڑھی کٹانے اور منڈوانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: ایک مشیت داڑھی واجب اور ضروری ہے اس سے کم کرنا یا منڈانا جائز اور حرام ہے۔ ایسا کرنے والا گناہگار ہے اور فاسق ہے۔ فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے اس لئے ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں، اگر کوئی ایسا شخص جبراً امام بن گیا یا مسجد کی منتظمہ نے بنادیا اور ہٹانے پر قدرت نہ ہو تو کسی دوسری مسجد میں صالح امام تلاش کرے اگر میسر نہ ہو تو جماعت نہ چھوڑے بلکہ فاسق کے پیچھے ہی نماز پڑھ لے اسکا وبال و عذاب مسجد کے منتظمہ پر ہوگا۔

صلی خلف فاسق او مبتدع نال فضل الجماعة (درمختار)

و فی الشامیة افاد ان الصلوة خلفها اولی من الانفراد و لکن

لا ینال کما ینال خلف تقی ورع. ﴿شامیہ ج ۱﴾

﴿احسن الفتاویٰ ص ۲۶۰ ج ۳، خیر الفتاویٰ ص ۳۷۱ ج ۲﴾

داڑھی کٹانے والے کے پیچھے نماز تراویح جائز نہیں

سوال: حافظ قرآن کی داڑھی اگر ایک مشیت سے کم ہو تو اسکے پیچھے تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: داڑھی ایک مشیت سے کم کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ ایسا حافظ فاسق ہے فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اگر متبع شریعت حافظ نہ ملے تب بھی فاسق کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں۔ لہذا فاسق کی اقتداء میں تراویح پڑھنے کے بجائے چھوٹی سورتوں سے پڑھی جائیں۔ ﴿حسن الفتاویٰ ص ۵۱۸ ج ۳﴾

داڑھی مونڈنے کی اجرت

سوال: داڑھی مونڈنے کی اجرت کا کیا حکم ہے؟

جواب: واضح ہو کہ اپنی داڑھی مونڈنا یا ایک مشیت سے کم کرنا حرام ہے ایسے ہی دوسرے کی داڑھی مونڈنا اور مقدار مذکورہ سے کم کرنا بھی حرام ہے اور داڑھی مونڈھنے کی اجرت وصول کرنا بھی حرام لہذا باربری کا پیشہ اختیار کرنے والے اپنی روزی حرام نہ کریں۔ ﴿ماخوذ از داڑھی ایک اسلامی شعار ہے﴾

ہاتھوں کا گناہ

و من آفات الیدین حلق رأس المرأة و لحية الرجل و قص
اقل من قبضة و لو باذن منه لانه اعانة علی معصية فيكون معصية
ایضاً۔ ﴿شرح طریقہ محمدیہ﴾

دونوں ہاتھوں کے آفات (گناہوں) میں سے عورت کے سر کے بال

اور مرد کی داڑھی کا مونڈنا اور مٹھی سے کم کا تراشنا بھی ہے چاہے یہ مونڈنا اور کترنا اس مرد یا عورت کی اجازت سے کیوں نہ ہو کیونکہ یہ گناہ کے کام میں مدد کرنا ہے اور گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے۔

نیز کشاف القناع میں ہے کہ داڑھی منڈانے کیلئے کسی کو اجرت دینا اور اجرت کا لینا دونوں حرام ہے۔

﴿کشاف ص ۹ ج ۴، ماخوذ از داڑھی کی اسلامی حیثیت﴾

داڑھی منڈے کو سلام کرنے کا حکم

سوال: جو شخص داڑھی منڈاتا یا کٹواتا ہوا سے سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: داڑھی کو منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے۔ فاسق کی توقیر و احترام جائز نہیں ایسے شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے تاہم اگر اس سے جان پہچان یا رشتہ داری ہو تو اس کو سلام کرنا چاہئے تاکہ آپس میں منافرت نہ پھیلے اور وہ دین سے بیزار نہ ہو جائے۔

وفي الشامية قال: انه يكره السلام على الفاسق لو معلنا و الا لا.

﴿شامی ص ۵۱۷ ج ۱﴾

داڑھی منڈے کے سلام کا جواب دینا

سوال: داڑھی منڈا اگر کسی کو سلام کرے تو جواب دینا چاہئے یا نہیں؟

جواب: دوسروں کے سلام کے جواب کی طرح داڑھی منڈے کے سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔

كما في الشاميه قال: وينبغي وجوب الرد على الفاسق

لان كراهة السلام عليه للزجر فلا تنافي الوجوب عليه تأمل.

﴿شامی ص ۶۱۸ ج ۱﴾

ہر داڑھی والے کو مولانا کہنے کا حکم

سوال: آجکل ہمارے ہاں دستور ہو گیا ہے کہ جسکے چہرے پر تھوڑی بہت داڑھی کے بال ہوں اسکو مولانا کہہ دیا جاتا ہے اسی لقب کے ساتھ اسکو پکارا جاتا ہے شرعی مسئلہ بھی بعض دفعہ اس سے پوچھا جاتا ہے اس سے کوئی غلط کام سرزد ہو جائے تو اسکو بنیاد بنا کر علماء کو بدنام کیا جاتا ہے کیا شرعاً ہر کسی کو مولانا کہنا جائز ہے؟

جواب: مولانا، مولوی، ملا، یہ انتہائی ادب کے الفاظ ہیں۔ ان اشخاص کے لئے بولے جاتے ہیں جنہوں نے ماہر اساتذہ کرام کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر کے ایک معتد بہ وقت گزار کر علوم نبویہ سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہو، قرآن و حدیث

سے واقفیت اور احکام شرع سے ممارست حاصل کر لی ہو۔

ہر کس و ناکس کو مولوی مولانا کا خطاب دینا، دینی مسائل کیلئے ان کی طرف رجوع کرنا ان کے اقوال و افعال کو سند بنانا یہ گمراہی کا ایک خطرناک دروازہ کھولنا ہے اس لئے ہر کسی کو مولانا کہنا جائز نہیں ہے۔

دین کے معاملات میں ہر کس و ناکس کو مقتدا بنانا، ان پر اعتماد کرنا بھی جائز نہیں اس سے احتیاط کرنا نہایت ضروری ہے۔ پھر کسی ایک کی غلطی پر بلا وجہ علماء کی جماعت کو بدنام کرنا علماء اور شریعت کی توہین کرنا اور علماء کو سب و شتم کرنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے **لما فی العالمگیریۃ: و ینخاف علیہ الکفر اذا شتم عالما او فقیہا من غیر سب الخ**

اسی طرح جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری صورت شریعت مطہرہ کے مطابق بنانے کی توفیق دی ہے، ان کو بھی چاہئے کہ شریعت کے بقیہ احکام پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ دینی مسائل کو محقق و ماہر علماء کرام سے معلوم کرتے رہیں، اگر کوئی دین کی بات پوچھے تو از خود جواب دینے کی بجائے علماء کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیں یا کسی ماہر مفتی سے پوچھ کر تب جواب دیں کہ فلاں مفتی صاحب نے اس مسئلہ کا حکم یہ بتایا ہے، خود سے جواب نہ دیں اور نہ ہی دوسروں کے

کہنے کی وجہ سے اپنے کو مولانا سمجھیں۔

موچھوں کا حکم

سوال: موچھوں کا کیا حکم ہے؟

جواب: موچھوں کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ خالفوا المشرکین و احفوا الشوارب و اوفوا اللحیٰ (بخاری) یعنی مشرکین کی مخالفت کیا کرو، موچھوں کو اچھی طرح ترشواؤ اور داڑھیاں خوب بڑھاؤ۔

چونکہ داڑھی مونڈھنا اور موچھیں بڑھانا مشرکین کا طریقہ ہے۔ اسکے خلاف داڑھی بڑھانا اور موچھیں کٹوانا حضرات انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے اسلئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی سے فرمایا ہے۔

من لم يأخذ من شاربه فليس منا۔ (یعنی جو شخص موچھیں نہ تراشے وہ ہم میں سے نہیں)۔ لہذا موچھوں کو اس طرح بڑھانا جیسا کہ مشرکین اور سکھ بڑھاتے ہیں کہ موچھوں کے بال منہ کے اندر گھسے جارہے ہوں یا آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہوں یہ طریقہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سنت اور ان کے طریقے کے خلاف کرنا کس قدر گناہ کی بات ہے

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تم تمدن میں ہنود
مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

موچھوں کو تراشنے کا حکم

سوال: موچھوں کو کس طرح کاٹا جائے؟

جواب: موچھوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں
قصوا، احفوا، انہکوا آخر کے دونوں لفظ مبالغہ پر دلالت کرتے ہیں اسلئے
موچھیں کاٹنے میں مبالغہ کرنا مستحب ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما تراشنے میں
اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ اوپر کے ہونٹ کی کھال کی سفیدی نظر آتی تھی اگر موچھوں پر
موٹی مشین پھیر دیا جائے یا قینچی سے اچھی طرح تراش دیا جائے تو اس سے مبالغہ
والی صورت حاصل ہوتی ہے۔ اگر مبالغہ نہ کیا جائے بلکہ اس طرح کاٹا جائے کہ اوپر
کے ہونٹ کی سرخی نظر آئے۔ یعنی بال منہ کے اندر نہ گھستے ہوں اور دیکھ کر نفرت نہ
ہوتی ہو تو کسی قدر اس کی بھی گنجائش ہے۔

موچھوں کو دائیں بائیں بڑھانے کا کیا حکم ہے؟

سوال: موچھیں دونوں طرف بڑھانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ایسا کرنا مکروہ ہے لہذا مونچھیں دونوں طرف نہ بڑھائی جائیں۔ قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ: واما طرفا الشارب و هما السبالان فقیل ہما منہ وقیل من اللحية فقیل لا بأس بتركهما وقیل یکرہ لما فیہ من التشبه بالاعاجم و اهل الکتاب و هذا اولی بالصواب و تمامہ فی حاشیہ نوح.

﴿رد المختار ص ۲۰۴ ج ۲، احسن الفتاویٰ ص ۴۴۷ ج ۸﴾

مجاہدین کیلئے مونچھیں بڑھانے کا حکم

سوال: مجاہدین کیلئے میدانِ جہاد میں مونچھیں بڑھانے کا کیا حکم ہے؟

جواب: مجاہدین کیلئے میدانِ جہاد میں اس نیت سے مونچھیں بڑھانا تاکہ دشمن پر رعب رہے شرعاً جائز ہے۔ بشرطیکہ اوپر کی ہونٹ کی سرخی نظر آئے۔

وفی الهندیۃ قال: قالوا لا بد عن طول الشارب للغزاة

لیکون اہیب فی عین العدو کذا فی الغیاثیہ. ﴿عالمگیری ص ۳۳۸ ج ۵﴾

مونچھوں کو مونڈھنے کا حکم

سوال: استرہ یا بلیڈ سے مونچھیں مونڈھنا جائز ہے یا مکروہ۔ جبکہ بعض حضرات

مونڈھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں کیا مونچھوں کو مونڈھنا واقعی مکروہ ہے؟

جواب: باتفاقِ امام ابوحنیفہ و صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ مونچھوں کو مونڈھنا یا ایسا کاٹنا جو کہ مونڈھنے کی طرح ہو سنت ہے۔

سنیتِ طلق سے انکار امام صاحب و صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے مذہب منصوص کے خلاف ہونے کی وجہ سے بالکل غیر معتبر ہے۔ صحیح یہی ہے کہ مونچھوں کو مونڈھنا بھی سنت ہے بلکہ سنیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔

قال الطحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ قصہ حسن و احفاؤہ احسن و افضل و هذا مذہب ابی حنیفۃ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالیٰ وقال فی آخر البحث : ان قص الشارب من الفطرة و هو مما لا بد منه و ان ما بعد ذالک من الاحفاء هو افضل و فیہ من اصابة الخیر مالیس فی القص

﴿شرح معانی الآثار ص ۲۷۹ ج ۲﴾

﴿و التفاصيل مع الدلائل القویة فی احسن الفتاویٰ ص ۲۵۰ ج ۸﴾

وضاحت: یہاں تک داڑھی اور مونچھوں کے مفصل احکام بیان ہوئے اب داڑھی مونچھوں کی مناسبت سے جسم کے دوسرے بالوں کے شرعی احکام کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ فائدہ تام و عام ہو سکے۔

سر کے بالوں کی جائز صورتوں کی تفصیل

سوال : سر کے بالوں میں کون کون سی صورتیں جائز ہیں اور کونسی نا جائز۔ اسکو وضاحت کے ساتھ بیان کریں؟

جواب بال رکھنے کی جائز صورتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ پٹے رکھنا اسکی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ کانوں کی لوتک اسکو عربی میں ”وفره“ کہتے ہیں۔

ب۔ کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تک اسکو ”لِمْه“ کہتے ہیں۔

ج۔ کندھوں تک اسکو ”جُمَہ“ کہتے ہیں۔

۲۔ حلق یعنی پورے سر کے بال منڈوانا۔

۳۔ پورے سر کے بالوں کو برابر کاٹنا۔

ان میں سب سے افضل پہلی صورت ہے پھر دوسری صورت کا درجہ اور

آخری صورت کی صرف گنجائش ہے۔

اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ پٹے رکھنا مسنون ہے۔ البتہ حلق

(منڈانے) کی سنیت میں اختلاف ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہلی

رضی اللہ عنہ کے دائمی عمل ہونے کی وجہ سے منسون کہا ہے۔

اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسکی سنیت نقل کی ہے۔ بہر حال حلق کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے اور بچوں کی تربیت کی خاطر ان کے سر کو منڈوانا افضل ہے بلکہ غلبہٴ فساد کی وجہ سے ضروری ہے۔

سر پر بال رکھنے کا حکم

سوال: سر منڈانا سنت ہے یا سر پر بال رکھنا؟

جواب: سنت کی دو قسمیں ہیں (۱) سنت عبادت، (۲) سنت عادت، مطلق سنت کا اطلاق سنت عبادت پر ہوتا ہے ترک سنت پر وعید بجا آوری پر ثواب کا مدار بھی اسی پہلی قسم پر ہے، دوسری قسم سنت عادت پر عمل کرنا بھی باعث برکت اور دلیل محبت ہے لیکن دین کا ایسا جز نہیں ہے کہ اسکے ترک پر ملامت کی جائے، اب سر پر بال رکھنا سنت عادت میں داخل ہے، کوئی اتباع سنت کی نیت سے رکھ لے باعث اجر و ثواب ہے۔

باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر بال منڈانا بھی ثابت ہے اسطرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مستمرہ منڈانے کی تھی اس لئے، منڈانا بھی بلا کراہت جائز ہے البتہ اولیٰ اور بہتر سر پر بال رکھنا ہے۔

سر کے بالوں کی ناجائز صورتیں

سوال: آجکل عوام میں سر کے بال بنانے کی مختلف صورتیں رائج ہیں اس کو فیشنی بال کہا جاتا ہے۔ سب میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ بال کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے ہوتے ہیں گویا فیشن پورا ہی جب ہوتا ہے کہ بالوں میں یکسانیت نہ ہو، تو ایسے فیشنی بالوں کا شرعاً کیا حکم ہے؟

جواب: سر کے بعض حصہ کے بال منڈانا بعض حصے کے چھوڑنا یا بعض زیادہ تراشنا بعض کم، حدیث میں ایسے بال رکھنے سے صراحتہ ممانعت آئی ہے، خواہ یہ کسی فاسق و فاجر قوم یا گروہ کا شعار ہو یا نہ ہو۔ اگر فاسق و فجار کا شعار بھی ہو تو اس کا گناہ اور بھی سخت ہوگا۔
﴿مختص از احسن الفتاویٰ ج ۸﴾

اس زمانے میں چاروں طرف کے بال برابر کاٹنے کے سوا، بقیہ تمام صورتیں انگریزوں کا شعار ہیں اس لئے ان فیشنی بالوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔

بچوں کے بالوں کا حکم

سوال: کیا بچوں کے بال کٹوانے کے بارے میں شریعت میں کوئی

پابندی ہے؟

جواب: بچوں کے بالوں کے متعلق بھی (قزع) یعنی بعض سر کے منڈانے اور بعض کے چھوڑنے سے ممانعت آتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ پورا سر منڈائے یا کم از کم چاروں طرف سے برابر کر کے بالکل چھوٹے کر دے جائیں۔ فیشنی بال بچوں کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآی صبیا حلق بعض راسه فنہام عن ذالک وقال احلقوا کله او اترکوا کله رواہ مسلم۔ ﴿مشکوٰۃ ص ۲۸ ج ۱، امداد الفتاویٰ ص ۲۲۳ ج ۲﴾

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا بعض حصہ منڈا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال کٹوانے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا ”یا پورے سر کے بال منڈا دو یا پورے چھوڑ دو“۔

مرد کیلئے جوڑا باندھنا جائز نہیں

سوال: مرد کے بال بہت بڑے بڑے ہوں تو ان کو سنبھالنے کے لئے جوڑا باندھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: مردوں کیلئے جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے،

قال العلامة عالم بن العلاء الدهلوی رحمہ اللہ و یکرہ ان یصلی و ہو عاقص شعرہ و العقص هو الاحکام و الشد و المراد من المسألة عند بعض المشایخ ان یجمع شعرہ علی ہامتہ و یشدہ بصمغ أو غیرہ لیتلد و عند بعضهم ان یلف ذوائبہ حول رأسہ کما تفعلہ النساء فی بعض الاوقات و عند بعضهم ان یجمع الشعر کله من قبل القفاء و یمسکہ بخیط خرقة کیلا یصیب الارض اذا سجد.

﴿التارخانہ ص ۵۶۱ ج ۱، احسن الفتاویٰ ص ۸۷ ج ۱۰﴾

عورتوں کا جوڑا باندھنا

سوال: عورتیں سر کے بالوں کو کس طرح پردہ میں رکھیں۔ اگر جوڑا باندھے تو اس کا جائز طریقہ کونسا ہے؟

جواب: عورتوں کا بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر جوڑا باندھنا ناجائز ہے حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے کہ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اسکے سواء دوسرے طریقے جائز ہیں بشرطیکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے اور کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہو بالوں کا سخت پردہ ہے حتیٰ کہ بوڑھی عورت کے بال دیکھنا بھی حرام ہے گدی پر جوڑا باندھنا جائز ہے بلکہ حالت نماز میں افضل ہے اس لئے کہ اس

سے بالوں کے پردہ میں سہولت ہوتی ہے۔

﴿ملخص از احسن الفتاویٰ ص ۷۴ ج ۸﴾

مصنوعی بال لگانا

سوال: بعض عورتیں بازار سے مصنوعی بال خرید کر اپنے بالوں میں لگاتی ہیں تاکہ بال بڑے معلوم ہوں کیا یہ جائز ہے؟

جواب: اگر یہ بال انسان کے ہوں تو ان بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ ملانا گناہ کبیرہ ہے اس پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے اور جانور وغیرہ کے بال ملانا جائز ہے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم! لعن اللہ الواصلة و المستوصلة و الواشمة و الممشوشمة متفق علیہ مشکوٰۃ. (یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بالوں میں کسی دوسری عورت کے بالوں کا جوڑا لگائے (خواہ خود لگائے یا کسی دوسرے سے لگوائے) اور جو کسی دوسری عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑا لگائے اور جو عورت گودے اور جو عورت گدوائے (یعنی سوئی وغیرہ کوئی چبھو کر اس زخم میں سرمہ یا نیل وغیرہ بھر دیا جائے) ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے)۔

و فی الشامیۃ قال: و لا یجوز الانتفاء به لحديث لعن الله الواصلة و المستوصلة و انما یرخص فیما یتخذ من الوبر فیزید فی قرون النساء و ذوائبهن هداية ﴿شامیہ ص ۵۸ ج ۵ باب بیع الفاسد﴾

انسانی بالوں کو بیچنا

سوال: انسانی بالوں کو بیچنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: انسان کے قابلِ احترام ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے بالوں کو بیچنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کسی نے بیچا تو اسکی قیمت حلال نہیں ہوگی اسکو واپس کرنا ضروری ہے۔ ﴿شامی ص ۵۸ ج ۵﴾

عورتوں کا بال کٹوانا

سوال: آجکل خواتین جو کہ بطور فیشن کے سر کے بال کٹواتی ہیں کیا شرعاً خواتین کیلئے سر کے بال کٹوانا جائز ہے؟

جواب: خواتین کے لئے اپنے سر کے بالوں کو موٹڈھنا کترنا خواہ کسی بھی جانب سے ہو تشبہ بالرجال ہونے کی وجہ سے شرعاً جائز نہیں ہے۔ شریعتِ مطہرہ میں اسکی ممانعت آئی ہے۔ ہاں البتہ شرعی عذر کی بناء پر۔ مثلاً سر میں کوئی بیماری درد وغیرہ پیدا

ہو جائے جسکے سبب بالوں کا ازالہ ناگزیر ہو۔ (یعنی اسکے بغیر سخت تکلیف میں مبتلا ہو) تو بالوں کے ازالہ کرنیکی گنجائش ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ عذر ختم ہو جائیگا اجازت بھی ختم ہو جائیگی۔

وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواہ البخاری۔ ﴿مشکوٰۃ باب الترجل﴾
وعن علی رضی اللہ عنہ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأة رأسها (رواہ النسائی) و فی حاشیۃ المشکوٰۃ قوله ان تحلق المرأة رأسها و ذالک لان الذوائب للنساء کاللحي للرجال فی الهيئة و الجمال۔ ﴿مشکوٰۃ ص ۳۸۴ ج ۲﴾

یعنی: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ ﴿بخاری﴾

اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سر منڈانے سے منع فرمایا ﴿نسائی﴾

اس حدیث کے تحت مشکوٰۃ کے حاشیہ میں مذکور ہے کہ عورتوں کو سر منڈانے سے منع فرمانیکی وجہ یہی ہے کہ عورتوں کی زلفیں مردوں کی واڑھی کی طرح ہیں صورت و زینت میں۔ لہذا جس طرح مردوں کے لئے واڑھی منڈانا یا مٹھی سے کم کرنا حرام ہے بعینہ اسی طرح عورتوں کے سر کا بال منڈانا اور کٹوانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔

بال کٹوانے کی ممانعت کس عمر سے ہے؟

سوال: لڑکیوں کیلئے بال کٹوانے کی ممانعت کا حکم کتنی عمر سے ہے؟

جواب: اصل حکم تو بلوغ کے ساتھ ہے لیکن نو سال پورے ہونے کے ساتھ وہ پردہ وغیرہ بہت سے مسائل میں بالغہ کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ اس لئے نو سال کی عمر سے ہی بال کٹوانے سے ممانعت کر دی جائیگی۔

ابرو کا حکم

سوال: اگر کسی کی ابرو زیادہ ہوں دیکھنے میں بدنما لگتی ہوں تو زائد بالوں کو قینچی سے برابر کر دینا کیسا ہے؟

جواب: ابرو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوں تو ان کو درست کر کے عام حالت کے

مطابق کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ اتنا مبالغہ نہ ہو کہ نامصہ اور مٹمٹمہ کے حکم میں داخل ہو جائے۔

وفي الشامية قال: ولا بأس باخذ الحاجبين و شعر وجهه

مالم يشبه المنخث تاتر خانيه. ﴿شامی ص ۲۸۸ ج ۵﴾

سینے اور پیٹ کے بال کا حکم

سوال: سینے اور پیٹ کے بالوں کو منڈانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: جائز ہے مگر خلاف ادب اور غیر اولیٰ ہے۔

وفي الهندية قال: وفي حلق شعر الصدر و الظهر ترك

الادب كذا في القنية. ﴿عائلیگیہ ص ۲۵۸ ج ۵﴾

ران اور بازو کے بالوں کا حکم

سوال: ران اور بازو وغیرہ پر جو بال ہوتے ہیں ان کو مونڈنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: ان بالوں کا رکھنا اور مونڈنا دونوں درست ہے۔ ﴿بہشتی گوہر﴾

ناک کے اندر کے بالوں کا حکم

سوال: موئے بینی یعنی ناک کے اندر کے بالوں کو کاٹنا بہتر ہے یا اکھیڑنا اور اسکی

مدت کیا ہے؟

جواب: ناک کے اندر کے بالوں کو قینچی سے کترنا بہتر ہے۔ اکھیڑنا مناسب نہیں جب بھی بال بڑھے ہوئے نظر آئیں انکو صاف کریں ناک کے بالوں کو اتنا بڑھا لینا کہ ناک سے باہر نکل جائیں۔ اور لوگوں کے لئے نفرت کا سبب بنیں بالکل درست نہیں۔ وفي الشامية قال : و لا ينتف انفه لانه يورث الاكلة.

ہشامی ص ۲۸۸ ج ۵۔ کتاب المحضر والا بآء

کان کے بالوں کا حکم

سوال: بعض لوگوں کے کان کے اوپر والے ہتے میں کچھ بال اُگتے ہیں ان کو کاٹنا شرعاً کیسا ہے؟

جواب: کان کے بالوں کو کاٹ کر صاف کرنا جائز ہے۔

گردن کے بالوں کا حکم

سوال: گردن کے بال موٹنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: گردن کے بال موٹنا جائز ہے۔ اس میں کوئی کراہت نہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ گردن جدا عضو ہے اور سر جد الہذا گردن کے بال

منڈانا درست ہے۔ ﴿فتاویٰ رشیدیہ ۳۶۷﴾

زیر بغل کا حکم

سوال: زیر بغل کا شرعاً کیا حکم ہے؟

جواب: زیر ناف کی طرح زیر بغل کی صفائی بھی ضروری ہے البتہ اس میں اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ ان بالوں کو نوچ کر دور کیا جائے۔ مونڈنا بھی جائز ہے۔

﴿شامی ص ۲۸۸ ج ۵﴾

زیر ناف کا حکم

سوال: زیر ناف کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: ہر ہفتہ میں ایک مرتبہ زیر ناف کو صاف کرنا افضل ہے سب سے بہتر جمعہ کا دن ہے کہ نماز جمعہ سے قبل صفائی ستھرائی حاصل کرے ہر ہفتہ میں نہ ہو سکے تو پندرہ دن سہی۔ انتہائی درجہ چالیسویں دن ہے۔ اس سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں اگر چالیس دن گزر گئے پھر بھی صفائی نہیں کی تو گنہگار ہوگا یہی حکم ناخن اور مونے بغل کا بھی ہے۔ ﴿شامی ص ۲۸۸ ج ۱، کتاب الخضر والاباحہ﴾

وفی الہندیۃ قال ولا عذر فیما وراء الاربعین و یتحقق

الوعید کذا فی القنیۃ ﴿عائگیری ص ۲۵۸ ج ۵﴾

زیر ناف صاف کرنے کا طریقہ

سوال: زیر ناف صاف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟

جواب: موئے زیر ناف میں مرد کیلئے استرا استعمال کرنا بہتر ہے۔ موٹے وقت ابتداء ناف کے نیچے سے کرے۔ عورت کیلئے سنت یہ ہے کہ چٹکی یا چٹھی سے دور کرے استرانہ لگے۔ ﴿بہشتی گوہر﴾

و فی الاشباہ و السنة فی عانة المرأة النتف . ﴿شامی ص ۲۸۸ ج ۱﴾

زیر ناف صاف کرنے کیلئے پاؤڈر کا استعمال

سوال: زیر ناف صاف کرنے کیلئے کریم یا پاؤڈر استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: مستحب یہ ہے کہ مرد استرا استعمال کرے اور عورتیں اکھاڑیں۔ تاہم پاؤڈر اور کریم کا استعمال بھی جائز ہے۔ ﴿مخلص از احسن الفتاویٰ ص ۷۸ ج ۸﴾

زیر ناف دوسرے سے صاف کروانے کا حکم

سوال: اگر کوئی شخص بڑھا پایا کسی اور مجبوری کی وجہ سے زیر ناف کی صفائی پر قادر نہ ہو تو کیا حکم ہے؟

جواب: بحالت مجبوری بیوی سے کروائے اگر بیوی نہ ہو تو کوئی دوسرا شخص نالی وغیرہ اپنی نظر کو بچاتا ہوا صاف کرے۔ اسی طرح عضو مخصوص کو ہاتھ لگانے سے بھی حتی الامکان پرہیز کرے۔ پاؤڈر وغیرہ سے آسانی سے صاف ہو سکتا ہو تو اس سے صاف کرے۔

وفی الہندیۃ قال: فی جامع الجوامع حلق عانتہ بیدہ و حلق الحجام جائز ان غض بصرہ کذا فی التارخانہ .

﴿عالمگیریہ ص ۳۵۸ ج ۴﴾

زیر ناف کی حدود

سوال: زیر ناف کے بال کہاں تک کاٹنے چاہیئے دُبر کے چاروں اطراف کے بال بھی کاٹنا ضروری ہے یا نہیں جبکہ انکو کاٹنا مشکل ہوتا ہے؟

جواب: زیر ناف (عانہ) کی حد مثانہ سے نیچے پیڑ کی ہڈی سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی ناف کے متصل نیچے سے شروع نہیں بلکہ پیٹ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سخت ہڈی ہے جس پر مخصوص نوعیت کے گھنے بال اُگتے ہیں وہیں سے حد شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے لیکر اعضا ثلاثہ (یعنی پیشاب کی نالی اور خصیتین) اور ان کے ارد گرد، اور ان کے برابر میں رانوں کا وہ حصہ جس کا نجاست کے ساتھ تلوٹ کا

خطرہ ہے۔ پورے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے اسی طرح دُبر کے بال صاف کرنا بھی واجب ہے اور اسکے اطراف کے بال بھی۔

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى في فضل الاحرام العانة
الشعر القريب من فرج الرجل و المرأة و مثلها شعر الدبر بل هو
اولى بالازالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بلا حجر.
﴿رد المحتار ص ۳۸۱ ج ۸، احسن الفتاوى ص ۷۸ ج ۸﴾

سر میں تیل لگانے کا حکم

سوال: سر میں تیل لگانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟

جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کثرت سے تیل استعمال کرتے تھے کثرت سے داڑھی میں کنگھی کرتے تھے۔
﴿شرح المنہ مخلوۃ﴾

تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سر پر تیل لگانا بھی سنت ہے۔ اور داڑھی میں کنگھی کرنا بھی سنت ہے۔ لیکن جو لوگ ہر وضوء کے بعد کنگھی کرتے ہیں اسکی سنت صحیحہ میں کوئی بنیاد نہیں، اسلئے ہر وضوء کے بعد کنگھی کرنے کی عادت نہ بنائیں۔

﴿مظاہر حق جدید ص ۲۲۳ ج ۳﴾

سر پر مانگ نکالنے کا حکم

سوال: سر کے بالوں میں مانگ نکالنے کا کیا حکم اور اس کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں میں مانگ نکالتی تو اوپر سے بالوں کے دو حصے کر کے مانگ چیرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بال دونوں آنکھوں کے درمیان چھوڑتی۔ ﴿ابوداؤد، مشکوٰۃ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ سر پر سنت کے مطابق پٹے بال ہوں تو مانگ نکالنا سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان کی جگہ سے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے تالوتک لے جائے۔

بالوں کو اچھی طرح رکھنے کا حکم

سوال: بالوں کی صفائی ستھرائی کے بارے میں شرعاً کوئی خاص ہدایت ہے؟

جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سر پر بال رکھے ہوئے ہو اس کو چاہئے کہ اپنے بالوں کو اچھی طرح رکھے۔ ﴿ابوداؤد﴾

اس حدیث میں بالوں کے باوے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اچھی طرح رکھے یعنی ان کو دھویا کرے ان پر تیل لگایا کرے۔ کنگھا کیا کرے۔ انہیں بکھری ہوئی حالت میں چھوڑنا کہ لوگوں کے لئے وحشت و نفرت کا باعث بنیں بالکل مناسب نہیں۔ کیونکہ نفاست صفائی ستھرائی ایک پسندیدہ محبوب چیز ہے۔ البتہ مرد اس میں مبالغہ نہ کرے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ﴿ترندی، ابوداؤد﴾

اس لئے اعتدال کے ساتھ سر اور داڑھی کے بالوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہئے۔

بال کے پاک و ناپاک ہونے کی تفصیل

سوال: بال پانی کے برتن میں گر جائے تو اسکا کیا حکم ہے؟

جواب: خنزیر کے علاوہ باقی تمام جانوروں کے بال اس طرح انسان کے بال پاک ہیں۔ اگر وہ پانی کے برتن میں گر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ خنزیر کا بال چونکہ ناپاک ہے وہ اگر پانی یا کسی اور چیز میں گر جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔

وفي الهداية قال ! شعر الانسان و عظمه طاهر.

محرم اگر سر پر سے دو چار جگہ سے

تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے تو حلال ہوگا یا نہیں؟

سوال: ایک شخص عمرہ کر کے سر پر سے دو چار جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوا کر احرام کھول کر اپنے گھر آ گیا تو وہ مذہب احناف کے موافق اپنے احرام سے حلال ہوا ہے یا نہیں؟

جواب: سر پر بال ہونے کی صورت میں عمرہ یا حج کے احرام سے حلال ہونے کیلئے احناف کے نزدیک حلق یا قصر ضروری ہے اور حلق وقصر کرانے میں کم از کم مقدار چوتھائی سر کا حلق کرانا ہے اس سے کم منڈوانے یا کٹوانے سے احرام سے حلال نہیں ہوگا اور چوتھائی سر کے بال کٹوانا ہو تو کم از کم ایک سر انگشت (یعنی پور) کے برابر کٹانا واجب ہے۔ ﴿عمدة الفقہ ص ۲۳۸ ج ۴، معلم الحجاج ص ۱۹۰﴾

اور اگر اتنے بال نہ ہوں تو صرف استرایا اس کے قائم مقام مشین پھیرنا کافی ہوگا جتنے بال بھی کٹ جائیں اس فعل کے ذریعے حلال ہو جائیگا۔

صورت مسئلہ میں شخص مذکورہ نے عمرہ کے احرام سے حلال ہونے کیلئے دو چار جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے اور وہ چوتھائی سر کی مقدار کو نہیں پہنچتے ہیں تو وہ اپنے احرام سے حلال نہیں ہوا۔ جب تک کم از کم چوتھائی سر کے برابر مقدار

انملہ (پور) بال نہ کٹائے گا حلال نہ ہوگا اور اس درمیان جتنے ممنوعات احرام کا ارتکاب کریگا اس کے اعتبار سے دم، صدقہ یا جزاء لازم ہوگی۔ تفصیل کیلئے معلم الحجاج میں ”جنايات“ یعنی ممنوعات احرام و حرم اور ان کی جزاء ملاحظہ ہو۔ عمرہ کے احرام سے حلال ہونے کیلئے حدود حرم سے باہر حلق یا قصر کرایا ہو وہ احرام سے حلال تو ہو جائیگا مگر ایک دم لازم ہوگا اور وہ دم حدود حرم میں ذبح کرانا لازم ہے اپنے مقام پر ذبح کرنا کافی نہ ہوگا۔ فتاویٰ رحیمیہ ص ۴۰۵ ج ۶

محرم کے سر پر بال نہ ہوں تو کیا کرے؟

سوال: ایک شخص حج کیلئے گیا اسی سفر میں اس نے کئی عمرے کئے احرام سے حلال ہونے کیلئے حلق یا قصر ضروری ہے چونکہ ہر روز یا دوسرے روز عمرہ کرنا تھا اس لئے بہت معمولی بال کٹتے تھے قریب ایک سوت یا اس سے بھی کم بال کٹتے نظر آتے تھے اب سوال یہ ہے یہ حلق صحیح ہوا یا نہیں؟

جواب: صورت مسئلہ میں جب پہلے حلق کرانے کی وجہ سے سر پر بال نہیں تو صرف استرایا اسکے قائم مقام مشین پھیر دینا کافی ہے اور یہ پھیرنا واجب ہے۔

وفی الہندیۃ قال : و اذا جاء وقت الحلق و لم یکن علی

رأسہ شعر بالحلق قبل ذالک او بسبب اخر ذکر فی الاصل انه

يجرى موسى' على رأسه لانه لو كان على رأسه شعر كان الماخوذ عليه اجراء موسى' و ازالة الشعر فما عجز عنه سقط و ما لم يعجز عنه يلزمه . ثم اختلف المشايخ فى اجراء موسى' انه واجب أو مستحب و الاصح أنه واجب هكذا فى المحيط .

﴿ ص ۲۳۱ ، فتاویٰ رحیمیہ ص ۴۰۶ ج ۶ ﴾

داڑھی منڈانے کے دنیوی نقصانات

سوال: داڑھی منڈانے سے دنیوی طور پر انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟

جواب: مولانا میرٹھی تحریر فرماتے ہیں کہ اب داڑھی کی طبی حیثیت بھی ملاحظہ فرمائیے: طب یونانی تو پہلے ہی طے کر چکی تھی کہ داڑھی مرد کے لئے زینت ہے اور گردن اور سینے کے لئے بڑی محافظ ہے مگر اب تو ڈاکٹر بھی الٹے پاؤں لوٹنے لگے ہیں چنانچہ ایک ڈاکٹر لکھتا ہے کہ داڑھی پر بار بار استراچلانے سے آنکھوں کی رگوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی بینائی کمزور ہوتی جاتی ہے دوسرا ڈاکٹر لکھتا ہے کہ نیچی داڑھی مضر صحت جراثیم کو اپنے اندر الجھا کر حلق اور سینہ تک پہنچنے سے روک لیتی ہے اور ایک ڈاکٹر یہاں تک لکھتا ہے کہ اگر سات نسلوں تک مردوں میں داڑھی منڈانے کی عادت قائم رہی تو آٹھویں نسل بے داڑھی کے پیدا ہوگی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ

ہر نسل میں مادہ منویہ کم ہوتے ہوئے آٹھویں نسل میں مفقود ہو جائے گا یہ اس ڈاکٹر کی پیشگوئی نہیں جس کا تعلق نجوم سے ہے بلکہ ایک طبعی اصول ہے کہ صاف لہجہ والا بچہ اگر بار بار کسی ہکے کی نقل اُتاتا رہتا ہے تو چند ہی روز میں ہکلا بن جاتا ہے پھر کتنی ہی کوشش کر لے ایک بات بھی بغیر ہکلاہٹ کے نہیں کہہ سکتا۔ اس بحث میں سب سے زیادہ واضح تحریر امریکن ڈاکٹر چارلس ہومر کی ہے جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ اس کا بلفظ ترجمہ ایک مضمون نگار نے ڈاڑھی مونڈنے کے لئے برقی سوئیاں ایجاد کرنے کی مجھ سے فرمائش کی ہے تاکہ وہ تمام وقت جو داڑھی مونڈنے کی نظر ہوتا ہے بچ جائے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر داڑھی کے نام سے لوگوں کو لرزہ کیوں چڑھتا ہے لوگ جب سروں پر بال رکھتے ہیں تو پھر چہرہ پر ان کے رکھنے میں کیا عیب ہے۔

کسی کے سر پر اگر کسی جگہ کے بال اڑ جائیں تو اسے اس گنج کے اظہار سے شرم آیا کرتی ہے لیکن یہ عجب تماشا ہے کہ اپنے پورے چہرے کو خوشی سے گنجا کر لیتے ہیں اور اپنے کو داڑھی سے محروم کرتے ذرا نہیں شرماتے جو کہ مرد ہونے کی سب سے زیادہ واضح علامت ہے۔ ﴿ماخوذ از داڑھی کا وجوب﴾

اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ تمام مسلمانوں کو شریعتِ مطہرہ کے مطابق

زندگی گزارنے کی توفیق عطاء فرمائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صورت، شکل لباس، وضع قطع، رہن سہن اپنانے کی توفیق عطاء فرمائے۔

آمین ہو نعم الوکیل

راقم الحروف: احسان اللہ شائق عفا اللہ عنہ

استاذ و مفتی جامعۃ المرید احسن آباد کراچی

داڑھی سے متعلق ایک نظم سے اقتباس

قبر کی کچھ کرلو تیاری
 رکھ لو بھیا اب تو داڑھی
 سامنا جب آقا کا ہو
 جھکے نہ گردن شرم کے مارے
 شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنائے گا
 رب کا پیارا وہ بن جائے گا
 برے لگی اس پر رحمت باری
 رکھ لو بھیا اب تو داڑھی
 جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا
 اللہ کو گویا اس نے ستایا
 حشر میں ہوگی اس کی خواری
 رکھ لو بھیا اب تو داڑھی

اللہ داڑھی اب نہ منڈانا

اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حل نہ دکھانا

سنت سن کی ہے یہ پیاری

رکھ لو بھیا اب تو داڑھی

قبر میں جب تم کل جاؤ گے

آقا کو کیا منہ دکھلاؤ گے

عقل میں آئی یہ بات تمہاری

رکھ لو بھیا اب تو داڑھی

جس نے سنت کو اپنایا

اس نے بڑا نفع کمایا

گواہی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری

رکھ لو بھیا اب تو داڑھی